



ص

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱	ص۔ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو۔
۲	مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں۔
۳	ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا۔
۴	اور انہوں نے تعجب کیا کہ انکے پاس ان ہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
۵	کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
۶	اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو۔ بیشک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے۔
۷	یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے۔
۸	کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
۹	کیا انکے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔
۱۰	یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر ان ہی کی حکومت ہے۔ تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر پڑھ جائیں۔

۱۱ یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔

۱۲ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میمؤں والا فرعون بھی جھٹلا چکے ہیں۔

۱۳ اور ثمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی۔ یہی وہ شکست خوردہ گروہ ہیں۔

۱۴ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر واقع ہوا۔

۱۵ اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔

۱۶ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہلکو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دیدے۔

۱۷ اے پیغمبر ﷺ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

۱۸ ہم نے پہاڑوں کو انکے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام انکے ساتھ سلجھ کرتے تھے۔

۱۹ اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک انکے آگے رجوع رہتا تھا۔

۲۰ اور ہم نے انکی بادشاہی کو مستحکم کیا اور انکو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی۔

۲۱ اور اے نبی ﷺ کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔

۲۲ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہلکو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔

۲۳ بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اسکے ہاں ننانوے دنیاں ہیں اور میرے پاس ایک ذبیہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔

۲۴ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری ذبیہ مانگتا ہے کہ اپنی دنیاویوں میں ملا لے بیشک تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم

ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے انکو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔

تو ہم نے انکو بخش دیا۔ اور بیشک انکے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ ۲۵

اے داؤد ہم نے تمکو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں انکے لئے سخت عذاب ہے اسلئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ ۲۶

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اسکو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب ہے۔ ۲۷

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے۔ کیا انکو ہم انکی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں۔ یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔ ۲۸

یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اسکی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ ۲۹

اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کئے۔ بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ۳۰

جب انکے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کئے گئے۔ ۳۱

تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی۔ یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ ۳۲

بولے کہ انکو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر انکی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ۳۳

اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور انکے تخت پر ایک دھڑسا ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ۳۴

اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایاں نہ ہو۔ بیشک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ ۳۵

۳۶ پھر ہم نے ہوا کو انکے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے انکے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔

۳۷ اور جنوں کو بھی انکے زیر فرمان کیا یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔

۳۸ اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔

۳۹ ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔

۴۰ اور بیشک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔

۴۱ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔

۴۲ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو ٹھنڈا پانی اور پینے کو بھی۔

۴۳ اور ہم نے انکو اہل و عیال اور انکے ساتھ اتنے ہی اور بھیجے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لئے نصیحت تھی۔

۴۴ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو بیشک ہم نے انکو ثابت قدم پایا۔ بہت خوب بندے تھے بیشک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔

۴۵ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔

۴۶ ہم نے انکو ایک صفت خاص آثرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔

۴۷ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔

۴۸ اور اسمعیل اور اسمعیل اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے۔

۴۹ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لئے تو عمدہ ٹھکانہ ہے۔

۵۰ ہمیشہ رہنے کے باغ جنکے دروازے انکے لئے کھلے ہوں گے۔

۵۱ ان میں تیکے لگانے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لئے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں

گے۔

۵۲ اور انکے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔

۵۳ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لئے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

۵۴ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔

۵۵ یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لئے ہیں اور سرکشوں کے لئے برا ٹھکانہ ہے۔

۵۶ یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور وہ بری آرامگاہ ہے۔

۵۷ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اسکے مزے چکھیں۔

۵۸ اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔

۵۹ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ نصستی چلی آ رہی ہے انکو خوش آمدید نہ کہا جائے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔

۶۰ کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہ کہا جائے۔ تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو۔ سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔

۶۱ وہ کہیں گے اے پروردگار جو اسکو ہمارے سامنے لایا ہے اسکو دوزخ میں دگنا عذاب دے۔

۶۲ اور کہیں گے۔ کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنکو ہم بروں میں شمار کرتے تھے۔

۶۳ کہا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں انکی طرف سے پھر گئی ہیں؟

۶۴ بیشک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔

۶۵ کہدو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۶۶ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے۔ غالب ہے بخشنے والا۔

۶۷ کہدو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔

۶۸ جسکو تم دھیان میں نہیں لاتے۔

۶۹	مجھکو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔
۷۰	میری طرف تو یہی وحی کیجاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔
۷۱	جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔
۷۲	جب میں اسکو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اسکے آگے سجدے میں گر پڑنا۔
۷۳	سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔
۷۴	مگر ابلیس کہ وہ اکر بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔
۷۵	اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسکے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا۔ کیا تو غرور میں آگیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟
۷۶	بولاکہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔
۷۷	فرمایا بس یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
۷۸	اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔
۷۹	کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھانے جائیں مہلت دے۔
۸۰	فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
۸۱	اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔
۸۲	کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔
۸۳	سوائے انکے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔
۸۴	فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔
۸۵	کہ میں تجھ سے اور جوان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
۸۶	اے پیغمبر کہدو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔

۸۷ یہ قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔

۸۸ اور تمکو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔

